



UNIONE EUROPEA



AUTORITA' RESPONSABILE

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Progetto



Tuscany Empowerment Actions for Migrants System

LE SETTE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

اسکول میں محفوظ رہنے کے لیے 7 اہم اصول

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

اسکول جانے کے لیے ہمیں مزید آگاہی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اسی طرح ہم سب مل کر محفوظ رہ سکتے ہیں۔

Per gli alunni:

طلباء کے لئے

1. Se hai febbre, tosse o raffreddore parlane subito con i genitori e non venire a scuola.
اگر آپ کو بخار کھانسی زکام ہیں تو والدین کو فوراً بتائیں اور اسکول مت آئیں۔
2. Se sei stato a contatto con un caso sospetto parlane subito con i genitori e non venire a scuola.
اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کسی بیمار کے ساتھ رہے ہیں اپنے والدین کو بتائیے۔ اسکول آنے سے گریز کریں۔
3. Quando sei a scuola indossa la mascherina su bocca e naso. Puoi levarla solo se sei fermo a distanza di almeno 1 metro dai compagni e 2 metri dagli insegnanti.
جب آپ اسکول میں ہوں اپنا ناک اور منہ ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں آپ اس کو اتار سکتے ہیں صرف اس وقت تک جب آپ اپنے کلاس فیلوز سے ایک میٹر کے فاصلے پر ہو اور اپنے اساتذہ سے دو میٹر کے فاصلے پر ہو۔
4. Mantieni sempre la distanza, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni.
ہمیشہ کلاس فیلوز سے فاصلہ رکھیں اور اور ایک دوسرے کو چھونے سے پرہیز کریں۔
5. Prima di entrare a scuola igienizza le mani. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.
اسکول داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ صاف رکھیں اور اسکول میں دیے گئے محلول سے





- اپنے ہاتھ بار بار صاف کریں ہاتھ چہرے اور ماسک کولگانے سے گریز کریں۔
6. Non muovere il banco, non cambiare posto, non scambiare oggetti con compagni o insegnanti.
اپنے بینچ کو اپنی جگہ سے مت ہلائیں۔ اپنی جگہ چینج نہ کریں۔ اپنے اساتذہ اور کلاس فیلوز سے کوئی چیز بھی ایکسچینج نہ کریں۔
 7. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
اساتذہ کی ہدایات پر عمل کریں اور علامتی سائنز کا احترام کریں۔

Per i genitori:

والدین کے لیے

1. Vieni a scuola solo se strettamente necessario e se stai bene. A scuola devi indossare la mascherina e igienizzarti le mani.
انتہائی وجوہات کی بنا پر سکول آئیں اور آپ صحت مند ہو۔ اسکول میں ماسک پہنے رکھیں اور اپنے ہاتھ صاف رکھیں۔
2. Non mandare a scuola tuo figlio se non sta bene.
اگر آپ کا بچہ ٹھیک نہیں تو اسکول مت بھیجیں۔
3. Se tuo figlio si sente male a scuola, devi venire a prenderlo immediatamente e chiamare il medico.
اگر آپ کا بچہ اسکول میں ٹھیک نہ ہو تو اس کو لینے فوراً آئیے۔ اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں
4. Prima di mandarlo a scuola misuragli la temperatura.
اسکول بھیجنے سے پہلے بچے کے جسم کا درجہ حرارت ضرور چیک کریں۔
5. Giustifica le assenze; fai portare da tuo figlio il certificato medico quando necessario; senza questi documenti tuo figlio non può entrare a scuola.
غیرحاضری کی وجہ ضرور بتائیے۔ بیماری کی صورت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ ضرور لائیے اس کے بغیر آپ کے بچے کو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔
6. In caso di contatti con casi sospetti Covid-19, chiama il medico e avverti la scuola.
کروناوائرس سے متاثرہ فرد کے ساتھ رہنے کی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اسکول میں بھی اس بات سے آگاہ کرے۔
7. Leggi sempre le comunicazioni della Scuola sul Registro Elettronico.
اسکول کی طرف سے دی گئی رجسٹرڈ ویب سائٹ پر اطلاعات ہمیشہ پڑھتے رہیے۔